



سوال

سورت فاتحہ کے نزول کا وقت

جواب

الحمد للہ

اول:

اکثر علمائے کرام کے ہاں سورت فاتحہ کی سورت ہے، اس سورت کے مکی ہونے پر علمائے کرام نے متعدد دلائل کو دلیل بنایا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں:

اس موقف پر متعدد صحیح دلائل موجود ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ النِّشَاطِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

اور سورت الحجر اجماعی طور پر مکی سورت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سَبْعًا مِنَ النِّشَاطِ تفسیر میں بتلایا ہے کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے، اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سورت فاتحہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔

نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی اور سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بعض علمائے کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یہ موقف ضعیف ہے،

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"سورت فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔۔۔ تاہم کسی کا یہ کہنا کہ سورت فاتحہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے یہ بلاشبہ غلطی ہے۔" ختم شد

مجموع الفتاویٰ (191-190/17)

سورت فاتحہ کے مکی ہونے کو محققین کی ایک جماعت نے راجح قرار دیا ہے جن میں ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن حجر، بیضاوی اور کواشی وغیرہ شامل ہیں۔

تفصیلات کے لیے دیکھیں کتاب: "المکی والذنی" از عبد الرزاق حسین (468-446/1)

دوم:

امام قرطبی رحمہ اللہ "الجامع لأحكام القرآن" (115/1) میں لکھتے ہیں کہ:

"اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے، اور اسلام کی پوری تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ کوئی نماز سورت فاتحہ کے بغیر ہوئی ہو، اس کی دلیل رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: (سورت فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں) تو اس حدیث میں خبر دی ہے گئی نہ کہ حکم لاگو کرنے کا آغاز کیا ہے۔ واللہ اعلم" ختم شد

واللہ اعلم